

25.07.2022

Appellant present through counsel.

Naseer Ud Din Shah, learned Assistant Advocate General alongwith Nowsherawan S.I (Legal) for respondents present.

Representative of respondents has already submitted reply/comments which are placed on file. To come up for rejoinder, if any, and arguments on 18.08.2022 before D.B.

(Rozina Rehman)
Member (J)

18.8.22

Due to hamper vacation, the case is adjourned to 19-10-22 for the same.

19.10.2022

Learned counsel for the appellant present. Mr. Inamullah, S.I (Legal) alongwith Mr. Muhammad Jan, District Attorney for the respondents present.

Learned counsel for the appellant sought adjournment on the ground that she has not made preparation for arguments. Adjourned.

To come up for arguments on 25.11.2022 before the D.B.

(Mian Muhammad)
Member (E)

(Salah-Ud-Din)
Member (J)

25/11/22

Due to deletion of the case to come up for the same on 25/1/23

15.02.2022

Due to retirement of the Worthy Chairman the Tribunal is defunct, therefore, case is adjourned to 30.03.2022 for the same as before.


Reader

30.03.2022

Counsel for the appellart present. Mr. Kabirullah Khattak, Addl: AG for respondents present.


Written reply/comments not submitted. On previous date the case was adjourned on the strength of Reader note, therefore, notices be issued to the respondents for submission of written reply/comments. Adjourned. To come up for written reply/comments on 20.05.2022 before S.B.


(MIAN MUHAMMAD)
MEMBER(E)

20.05.2022

Learred ccounsel for the appellant present. Mr. Muhammad Adeel Butt, Addl. AG alongwith Mr. Nowsherwan Inspector for respondents present.

Written reply/comments on behalf of respondents submitted which is placed on file. Copy of the same is handed over to the learned counsel for the appellant. To come up for rejoinder if any, and arguments on 25.07.2022 before S.B.


(Mian Muhammad)
Member (E)

18.01.2022

Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard.

Learned counsel for the appellant while opening her arguments contended that the appellant is aggrieved of the impugned order dated 20.10.2021 whereby he was dismissed from service. The appellant preferred departmental appeal against the impugned order on 28.10.2021 which was rejected through appellate order dated 28.12.2021 where-after the instant service appeal was instituted in the Service Tribunal on 07.01.2022. It was further argued that the impugned order is a void order because no law has been mentioned therein. No charge sheet/statement of allegations was issued to the appellant. Neither a proper enquiry was conducted nor an opportunity of personal hearing provided to the appellant and as such the ends of justice have not been fulfilled and the appellant stands condemned unheard. She relied on 2009 SCMR 412 citation-C while contending that before awarding major penalty, it was incumbent upon the respondents to have conducted proper enquiry before imposing a major penalty of dismissal from service.

Appellant Deposited
Security & Process Fee

18/1/22

The appeal is admitted to regular hearing subject to all just legal objections. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. Thereafter notices be issued to respondents for submission of reply/comments. To come up for reply/comments on 15.02.2022 before S.B.


(Mian Muhammad)
Member(E)



~~Due to retirement of the Chairman, the Tribunal is defunct, therefore, case is adjourned to 20.03.2022 for the same as before.~~

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- _____ 21 /2022

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	07/01/2022	<p>The appeal of Mr. Irfan Ul Haq presented today by Uzma Syed Advocate, may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p> <p>This case is entrusted to S. Bench at Peshawar for preliminary hearing to be put up there on <u>18/01/22</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

APPEAL NO. 21 /2022

IRFAN UL HAQ

VS

POLICE DEPTT:

INDEX

S.NO.	DOCUMENTS	ANNEXURE	PAGE
1	Memo of appeal	1- 3.
2	Affidavit	4.
3	Impugned order	A	5.
4	Departmental appeal	B	6.
5	Appellate order	C	7.
6	Wakalat nama	8.

APPELLANT

THROUGH:


UZMA SYED
ADVOCATE

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

APPEAL NO _____ /2022

Mr. Irfan Ul Haq, Ex-Constable No. 48,
Police Lines, Daggar.....APPELLANT

VERSUS

- 1- The Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 2- The Regional Police Officer, Malakand Region at Saidu Sharif, Swat.
- 3- The District Police Officer, District Buner.

.....RESPONDENTS

APPEAL UNDER SECTION-4 OF THE KHYBER
PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT-1974 AGAINST
THE IMPUGNED ORDER DATED 20.10.2021 WHEREBY
MAJOR PENALTY OF DISMISSAL FROM SERVICE HAS
BEEN IMPOSED ON THE APPELLANT AND AGAINST THE
IMPUGNED APPELLATE ORDER DATED 28.12.2021
WHEREBY DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT
HAS BEEN REJECTED ON NO GOOD GROUNDS

PRAYER:

That on acceptance of this appeal the impugned orders dated 20.10.2021 and 28.12.2021 may very kindly be set aside and be reinstated the appellant into service with all back benefits. Any other remedy which this August Tribunal deems fit that may also be awarded in favor of the appellant.

R/SHEWETH:

ON FACTS:

Brief facts giving rise to the present appeal are as under:-

- 1- That appellant was the employee of respondent Department and was performing his duty as Constable No. 48 quiet efficiently and up to the entire satisfaction of his superiors.
- 2- That appellant while performing his duty at the concerned station with devotion and honesty, the allegations of involvement in immoral activities have been leveled against the appellant.
- 3- That the respondent No.3 without conducting fact finding inquiry straight away issued the impugned order dated 20.10.2021 whereby major penalty of

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

APPEAL NO. _____/2022

IRFAN UL HAQ

VS

POLICE DEPTT:

AFFIDAVIT

I Uzma Syed, Advocate High Court, Peshawar on the instructions and on behalf of my client do hereby solemnly affirm and declare that the contents of this **service appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Honorable Court.

UZMA SYED,
Advocate
High Court, Peshawar

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
BUNER

ORDER


This order will dispose-off the departmental enquiry initiated against **Constable Irfan-ul-Haq No. 48** While posted to PS Elam (Now PTC Hangu) issued vide this office Enquiry No. 18, dated 01.10.2021.

Briefs facts are that:-

Constable Irfan-ul-Haq No. 48, while posted Police Station Elam, found involved in frequent immoral activities, lastly occurred in the jurisdiction of PS Elam, where the accused Constable was on duty and he left his point of duty and went to the nearby Water Springs / Fountains to have harassed & outrage the modesty of women pitching waters to their homes vide DD No. 12/23.09.2021, PS Elam. Consequently, he was proceeded against departmentally. **Mr. Abdur Rashid Khan SP Investigation, Buner** was appointed as Enquiry Officer. The Enquiry Officer conducted thorough enquiry and recorded his findings that the accused constable is habitual delinquent having 38 bad entries in his entire 11 years of service with zero good entries. The accused official is morally corrupt and recently been transferred from DHQ Hospital Daggar to PS Elam in the same context, where the above narrated allegations were leveled against and the same were thoroughly inquired, which proved against him. The E.O recommended him for awarding major punishment and also for adopting criminal proceedings as his acts are intolerable and embarrassment for the department.

Now, therefore, I **Abdur Rashid Khan (PSP)** District Police Officer Buner as Competent Authority and in exercise of the power vested under Police Rules-1975, is believed that the official accused is habitual, chronic and morally corrupt, agreed with the recommendation of Enquiry Officer of awarding major punishment. **Constable Irfan-ul-Haq No. 48 is hereby dismissal from service with immediate effect.**

Order announced.


DISTRICT POLICE OFFICER,
BUNER

OB No. 168

Dated: 20 / 10 / 2021.

بھنور جناب ریجنل پولیس آفیسر صاحب ملاکنڈ سید و شریف سوات

6- B

درخواست بمراد دوبارہ بحال

جناب عالی!

گزارش کی جاتی ہے کہ سائل مورخہ 01.01.2010 کو محکمہ پولیس میں بحیثیت کنسٹیبل بھرتی ہو کر نہایت خوش اسلوبی سے ڈیوٹی سرانجام دی ہے۔ یہ کہ سائل ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ گھر میں کوئی اور ذریعہ معاش والا نہیں ہے۔ یہ کہ سائل بوجہ محکمانہ انکوڑی بحوالہ آرڈر بک نمبر 168 محررہ 20.10.2021 محکمہ پولیس سے برخاست ہو چکا ہے۔ آرڈر کاپی ہمراہ درخواست لف ہے۔

بذریعہ درخواست استدعا ہے کہ سائل بہت زیادہ غریب ہے سائل کو دوبارہ بحال کرنے کا حکم صادر فرمائیں سائل تاحیات دُعا گور ہے گا۔

العارض

عرفان الحق ولد آمین الحق ساکن میٹو خپہ چمرزی ضلع بونیر

سابقہ کنسٹیبل نمبر: 48

28-10-2021

OFFICE OF THE
REGIONAL POLICE OFFICER, MALAKAND,
AT SAIDU SHARIF SWAT

ORDER

This order will dispose of appeal of Ex-Constable Irfan-Ul-Haq No.48 of Buner District for re-instatement in service, who was dismissed from service by the District Police Officer, Buner vide OB No. 168, dated 20.10.2021.

Brief facts of the case are that Ex-Constable Irfan Ul Haq No.48 was appointed on 01.01.2010 and performed his duties on various places. He was awarded 38 times minor punishments with adverse remarks from the DPO Buner. During his second last posting in DHQ Hospital for indulging in immoral activity there in the DHQ Hospital with ladies patients and subsequently he was transferred in Police Station Elam on 24.08.2021.


On 23/09/2021 vide DD No.12 PS Elam within a short span of period, he was again found in iniquitous activity there in the jurisdiction of PS Elam to the effect he left his point of duty and went to the nearby Water Spring/Fountain to have harassed & outrage the modesty of women pitching waters to their homes. He was suspended and closed to lines Daggar and consequently, he was proceeded against departmentally and Mr. Abdul Rashid Khan SP Investigation Buner was appointed as Inquiry Officer.

The Inquiry Officer conducted departmental enquiry and recorded his statement. The Enquiry Officer in his finding stated that the accused Constable is habitual delinquent having 38 bad entries in his entire 11 years' service with zero good entries. The accused official is ill reputation, morally corrupt all the allegations leveled against were proved against him and he was recommended for major punishment with criminal proceedings against him as his acts are intolerable and embarrassment for the department. On the recommendation of Enquiry Officer the District Police Officer, Buner awarded him major punishment of dismissal from service vide OB No. 168, dated 20.10.2021.

He was called in Orderly Room on 22.12.2021 and heard him in person but he did not produced any cogent reason to defend the charges leveled against him, therefore, his appeal is hereby rejected.

Regional Police Officer,
Malakand Region, Swat

بعد الت



2 مخائب
بنام

سورخه
مقدمه
دعوی
جرم

باعث تحریر آئیکہ

مقدمہ مشدرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کاروائی متعلقہ
آن مقام Peshawar کیلئے علیٰ علیہ اور ولید

مقررہ کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز
وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالثہ فیصلہ پر حلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور
بصورت ڈگری کرنے اجراء اور صولی چیک و روپیہ عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق
زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی
نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور
کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار
ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ یا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساخنہ Acceptance
پرواختہ منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ و ہرجانہ التوائے مقدمہ کے سے ہوگا۔ Acceptance
کوئی تارت پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی
مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھد یا کہ سندر ہے۔

المرقوم 6 1 ماہ 2022

واہ العب

Reshawan کے لئے منظور ہے۔

بمقام

"B"

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,
PESHAWAR. *S.B*

No.

Appeal No. 21 of 20 22

18 Jan ul Haq Appellant/Petitioner
 Versus

the I-G-P-KPK Respondent

Respondent No. 2

Recd

Notice to: — *the Regional Police Officer Malakand Region at Saidu Sharif Swat.*

WHEREAS an appeal/petition under the provision of the Khyber Pakhtunkhwa Province Service Tribunal Act, 1974, has been presented/registered for consideration, in the above case by the petitioner in this Court and notice has been ordered to issue. You are hereby informed that the said appeal/petition is fixed for hearing before the Tribunal *on *15/2/22* at 8.00 A.M. If you wish to urge anything against the appellant/petitioner you are at liberty to do so on the date fixed, or any other day to which the case may be postponed either in person or by authorised representative or by any Advocate, duly supported by your power of Attorney. You are, therefore, required to file in this Court at least seven days before the date of hearing 4 copies of written statement alongwith any other documents upon which you rely. Please also take notice that in default of your appearance on the date fixed and in the manner aforementioned, the appeal/petition will be heard and decided in your absence.

Notice of any alteration in the date fixed for hearing of this appeal/petition will be given to you by registered post. You should inform the Registrar of any change in your address. If you fail to furnish such address your address contained in this notice which the address given in the appeal/petition will be deemed to be your correct address, and further notice posted to this address by registered post will be deemed sufficient for the purpose of this appeal/petition.

Copy of appeal is attached. Copy of appeal has already been sent to you vide this office Notice No. dated

Given under my hand and the seal of this Court, at Peshawar this *21st*

Day of *Jan* 20 *22*

(for Reply)

[Signature]
 Registrar,

Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,
 Peshawar.

Note: 1. The hours of attendance in the court are the same that of the High Court except Sunday and Gazetted Holidays.
 2. Always quote Case No. While making any correspondence.

"B"

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD, S.B
PESHAWAR.

No.

Appeal No. 21 of 20 22

Irfan ul Haq

Appellant/Petitioner

Reqd

The I-C-P-KPK

Versus

Respondent

Respondent No. 3

The Distt. Police Officer Distt. Buner

Notice to: —

WHEREAS an appeal/petition under the provision of the Khyber Pakhtunkhwa Province Service Tribunal Act, 1974, has been presented/registered for consideration, in the above case by the petitioner in this Court and notice has been ordered to issue. You are hereby informed that the said appeal/petition is fixed for hearing before the Tribunal *on 15/1/22 at 8.00 A.M. If you wish to urge anything against the appellent/petitioner you are at liberty to do so on the date fixed, or any other day to which the case may be postponed either in person or by authorised representative or by any Advocate, duly supported by your power of Attorney. You are, therefore, required to file in this Court at least seven days before the date of hearing 4 copies of written statement alongwith any other documents upon which you rely. Please also take notice that in default of your appearance on the date fixed and in the manner aforementioned, the appeal/petition will be heard and decided in your absence.

Notice of any alteration in the date fixed for hearing of this appeal/petition will be given to you by registered post. You should inform the Registrar of any change in your address. If you fail to furnish such address your address contained in this notice which the address given in the appeal/petition will be deemed to be your correct address, and further notice posted to this address by registered post will be deemed sufficient for the purpose of this appeal/petition.

Copy of appeal is attached. Copy of appeal has already been sent to you vide this office Notice No.....dated.....

Given under my hand and the seal of this Court, at Peshawar this 21st

Day of Jan 20 22

(For Reply)

Registrar,
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,
Peshawar.

Note: 1. The hours of attendance in the court are the same that of the High Court except Sunday and Gazetted Holidays.
2. Always quote Case No. While making any correspondence.

"B"

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD, S.B
PESHAWAR.

No.

Appeal No. 21 of 20 22
Infan ul Haav Appellant/Petitioner
 Versus
The I.G.P. KPK Respondent

Respondent No. 1

Notice to:

The Inspector General of Police KPK Peshawar

WHEREAS an appeal/petition under the provision of the Khyber Pakhtunkhwa Province Service Tribunal Act, 1974, has been presented/registered for consideration, in the above case by the petitioner in this Court and notice has been ordered to issue. You are hereby informed that the said appeal/petition is fixed for hearing before the Tribunal *on 15/2/22 at 8.00 A.M. If you wish to urge anything against the appellant/petitioner you are at liberty to do so on the date fixed, or any other day to which the case may be postponed either in person or by authorised representative or by any Advocate, duly supported by your power of Attorney. You are, therefore, required to file in this Court at least seven days before the date of hearing 4 copies of written statement alongwith any other documents upon which you rely. Please also take notice that in default of your appearance on the date fixed and in the manner aforementioned, the appeal/petition will be heard and decided in your absence.

Notice of any alteration in the date fixed for hearing of this appeal/petition will be given to you by registered post. You should inform the Registrar of any change in your address. If you fail to furnish such address your address contained in this notice which the address given in the appeal/petition will be deemed to be your correct address, and further notice posted to this address by registered post will be deemed sufficient for the purpose of this appeal/petition.

Copy of appeal is attached. ~~Copy of appeal has already been sent to you vide this office Notice No. dated~~

Given under my hand and the seal of this Court, at Peshawar this 21st
 Day of Jan 20 22

(For Reply)
25/1/22



Registrar,
 Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,
 Peshawar.

Note: 1. The hours of attendance in the court are the same that of the High Court except Sunday and Gazetted Holidays.
 2. Always quote Case No. While making any correspondence.

“B”

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD, PESHAWAR. S.B

No.

Regrd ✓

Appeal No. 21 of 2022

Irfan ul Haq Appellant/Petitioner

Versus

The I.C.P Kpk Pesh: Respondent

Respondent No. 2

Notice to:

The Regional Police officers, Malakand Region at Saidu Sharif Swat.

WHEREAS an appeal/petition under the provision of the Khyber Pakhtunkhwa Province Service Tribunal Act, 1974, has been presented/registered for consideration, in the above case by the petitioner in this Court and notice has been ordered to issue. You are hereby informed that the said appeal/petition is fixed for hearing before the Tribunal *on 20/5/2022 at 8.00 A.M. If you wish to urge anything against the appellant/petitioner you are at liberty to do so on the date fixed, or any other day to which the case may be postponed either in person or by authorised representative or by any Advocate, duly supported by your power of Attorney. You are, therefore, required to file in this Court at least seven days before the date of hearing 4 copies of written statement alongwith any other documents upon which you rely. Please also take notice that in default of your appearance on the date fixed and in the manner aforementioned, the appeal/petition will be heard and decided in your absence.


Notice of any alteration in the date fixed for hearing of this appeal/petition will be given to you by registered post. You should inform the Registrar of any change in your address. If you fail to furnish such address your address contained in this notice which the address given in the appeal/petition will be deemed to be your correct address, and further notice posted to this address by registered post will be deemed sufficient for the purpose of this appeal/petition.

~~Copy of appeal is attached.~~ Copy of appeal has already been sent to you vide this office Notice No.....dated.....

Given under my hand and the seal of this Court, at Peshawar this 31th

Day of March 2022

(For Reply)


Registrar,
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,
Peshawar.

Note: 1. The hours of attendance in the court are the same that of the High Court except Sunday and Gazetted Holidays.
2. Always quote Case No. While making any correspondence.

"B"

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD,
PESHAWAR.

S.B

No.

Recd
#

Appeal No. 21 of 2022

Isfan ul Haq Appellant/Petitioner

Versus

The I.G.P Kpk Pesh: Respondent

Respondent No. 3

Notice to: The Dist. Police officer, Dist. Buner.

WHEREAS an appeal/petition under the provision of the Khyber Pakhtunkhwa Province Service Tribunal Act, 1974, has been presented/registered for consideration, in the above case by the petitioner in this Court and notice has been ordered to issue. You are hereby informed that the said appeal/petition is fixed for hearing before the Tribunal *on 20/5/2022 at 8.00 A.M. If you wish to urge anything against the appellent/petitioner you are at liberty to do so on the date fixed, or any other day to which the case may be postponed either in person or by authorised representative or by any Advocate, duly supported by your power of Attorney. You are, therefore, required to file in this Court at least seven days before the date of hearing 4 copies of written statement alongwith any other documents upon which you rely. Please also take notice that in default of your appearance on the date fixed and in the manner aforementioned, the appeal/petition will be heard and decided in your absence.


Notice of any alteration in the date fixed for hearing of this appeal/petition will be given to you by registered post. You should inform the Registrar of any change in your address. If you fail to furnish such address your address contained in this notice which the address given in the appeal/petition will be deemed to be your correct address, and further notice posted to this address by registered post will be deemed sufficient for the purpose of this appeal/petition.

~~Copy of appeal is attached.~~ Copy of appeal has already been sent to you vide this office Notice No.....dated.....

Given under my hand and the seal of this Court, at Peshawar this 31th

Day of March 2022

(For Reply)


Registrar,
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,
Peshawar.

Note: 1. The hours of attendance in the court are the same that of the High Court except Sunday and Gazetted Holidays.
2. Always quote Case No. While making any correspondence.

"B"

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.
JUDICIAL COMPLEX (OLD), KHYBER ROAD, S.B
PESHAWAR.

No.

Appeal No. 21 of 20 22

Isfan ul Haq,

Appellant/Petitioner

The I.G.P. KPK Pesh.

Respondent

Respondent No. 1

The Inspector General of Police KPK Peshawar.

Notice to: —

WHEREAS an appeal/petition under the provision of the Khyber Pakhtunkhwa Province Service Tribunal Act, 1974, has been presented/registered for consideration, in the above case by the petitioner in this Court and notice has been ordered to issue. You are hereby informed that the said appeal/petition is fixed for hearing before the Tribunal *on.....at 8.00 A.M. If you wish to urge anything against the appellant/petitioner you are at liberty to do so on the date fixed, or any other day to which the case may be postponed either in person or by authorised representative or by any Advocate, duly supported by your power of Attorney. You are, therefore, required to file in this Court at least seven days before the date of hearing 4 copies of written statement alongwith any other documents upon which you rely. Please also take notice that in default of your appearance on the date fixed and in the manner aforementioned, the appeal/petition will be heard and decided in your absence.

Notice of any alteration in the date fixed for hearing of this appeal/petition will be given to you by registered post. You should inform the Registrar of any change in your address. If you fail to furnish such address your address contained in this notice which the address given in the appeal/petition will be deemed to be your correct address, and further notice posted to this address by registered post will be deemed sufficient for the purpose of this appeal/petition.

Copy of appeal is attached. Copy of appeal has already been sent to you vide this office Notice No.....dated.....

Given under my hand and the seal of this Court, at Peshawar this..... 31/12

Day of..... March 20 22

(For Reply)



[Handwritten signature]

Registrar,
Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal,
Peshawar.

Note: 1. The hours of attendance in the court are the same that of the High Court except Sunday and Gazetted Holidays.
2. Always quote Case No. While making any correspondence.

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR**

Service Appeal No.21/2022

Irfan Ul Haq Ex-constable No.48

.....Appellant


Versus

1. The Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa
2. The Regional Police Officer Malakand at Saidu Sharif Swat
3. The District Police Officer Buner

.....Respondents

INDEX

S. No	Description	Annexure	Page No.
01	Para-wise comments	-	1,2
02	Authority letter	-	3
03	Affidavit	-	4
04	Copies of bad entries	"A"	5-6
05	Copy of DD report No.11 dated 23.09.2021	"B"	7
06	Copies of charge sheet, reply of the appellant, finding report & other enquiry papers	"C,D,E,F"	8-24
07	Copy of rejection order	"G"	25


**District Police Officer
Buner
(Respondent No.3)**

(1)

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

Service Appeal No.21/2022

Irfan Ul Haq Ex-constable No.48

.....Appellant

Versus

1. The Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa
2. The Regional Police Officer Malakand at Saidu Sharif Swat
3. The District Police Officer Buner

.....Respondents

PARA-WISE COMMENTS / REPLY ON BEHALF OF RESPONDENTS

Respectfully sheweth:-

Preliminarily objections:-

1. That the service appeal is barred by law and limitation.
2. That the service appeal is not maintainable under the law and rules.
3. That the appellant has not come to this honorable Tribunal with clean hands
4. That the instant appeal is bad due to miss-joinder and non-joinder of the necessary & proper parties.
5. That the appellant has concealed the material facts from this honorable tribunal.
6. That the appellant has got no cause of action and locus standi to file the instant appeal.
7. That the appellant has been estopped due to his own conduct.

ON FACTS:-

1. Correct to the extent that the appellant was employee of respondent department, however his service history tainted with many bad entries. **(Copies of bad entries are attached as annexures "A")**.
2. Incorrect; The appellant while posted in PS Elum left his duty point without permission and found harassing/outraging the minor girls who were pitching water to their home from the nearby fountain. Concerned Police Station SHO lodged a report vide DD No. 12 dated 23.09.2021 against the appellant. **(Copy of DD report is annexure B)**
3. Incorrect; After receiving the above mentioned complaint report to SHO Police Station Elum, a proper departmental enquiry was initiated against the appellant, who was charge sheeted coupled with statement of allegations. SP investigation Buner was appointed as Enquiry Officer. The appellant submitted his reply to the charge sheet which was found unsatisfactory. During the course of enquiry, the enquiry Officer recorded the statement of all relevant witnesses as well as statement of the appellant and EO submitted his finding report wherein he concluded that the allegations against the appellant have been proved and recommended that case FIR be registered against him according to the relevant sections otherwise appellant be awarded major punishment. Therefore, after conducting proper departmental enquiry, major punishment in shape of dismissal from service was imposed upon the appellant. **(Copy of charge sheet and reply of the appellant, finding report and Enquiry papers are attached as annexure C, D, E & F respectively)**
4. correct to the extent that the appellant submitted his departmental appeal to the office of respondent No.02 who called the appellant in OR on dated 22.12.2021 wherein he heard him in person but the appellant could not produce any cogent reason in his defense, therefore his appeal was rightly rejected vide office order

②

Endst: No. 15189/E dated 28.12.2021. (Copy of rejection order is attached as annexure G)


5. That the service appeal of the appellant is liable to be dismissed on the following grounds:-


GROUND:-

- A. Incorrect: The office orders dated 20.10.2021 and 28.12.2021 being passed in accordance with fact, law, rules and justice, therefore appeal of the appellant is liable to be dismissed.
- B. Incorrect; That the appellant has been treated in accordance with law /rules. No violation of constitution has been done by the respondent department.
- C. Incorrect: As explained above in the Para 3 to the facts, the appellant was properly issued charge sheet couple with statement of allegations and after conducting proper departmental enquiry the appellant was dismissed from service vide office order No. 20-10-2021.
- D. Incorrect; as explained in the above Para "C".
- E. Incorrect; all the legal/ Codal formalities have been fulfilled before issuing the impugned office Order dated 20.10.2021. Already explained in para 04 ibid.
- F. Incorrect; as explained in above Para "E".
- G. Incorrect; the appellant has been estopped due to his own conduct and the respondent department has not acted arbitrary and in mala-fide manner while issuing office Order dated 20.10.2021.
- H. That the respondents also seek permission of this honorable Tribunal to adduce more points/grounds at the time of arguments.

PRAYERS:-

In view of the above detailed para-wise comments/points, it is most humbly prayed that the service appeal of the appellant may graciously be dismissed with costs, please.


Inspector General of Police
Khyber Pakhtunkhwa
(Respondent No.01)


Regional Police Officer
Regional Police Officer
Malakand Region
Saidu Chaman, Swat
(Respondent No.2)


District Police Officer
Buner
(Respondent No.3)

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

Service Appeal No.21/2022

Irfan Ul Haq Ex-constable No.48

.....Appellant


Versus


1. The Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa
2. The Regional Police Officer Malakand at Saidu Sharif Swat
3. The District Police Officer Buner


.....Respondents

AFFIDAVIT

We the above respondents do hereby solemnly affirm and sate on oath that the whole accompany para-wise comments are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed from this honorable tribunal.


Inspector General of Police
Khyber Pakhtunkhwa
 (Respondent No.01)


Regional Police Officer,
Regional Police Officer
 Malakand Region,
 Saidu Sharif Swat
 (Respondent No.2)


District Police Officer Buner
 (Respondent No.3)
District Police Officer

Buner

(4)

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR

Service Appeal No.21/2022

Irfan Ul Haq Ex-constable No.48

.....Appellant


Versus


1. The Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa
2. The Regional Police Officer Malakand at Saidu Sharif Swat
3. The District Police Officer Buner

.....Respondents

AUTHORITY LETTER

We the above respondents do hereby authorize and allow Mr. Nawsherawan Khan Inspector legal Buner to file the accompany para-wise comments on our behalf in the honorable tribunal and do whatever is needed in the court.



Inspector General of Police
Khyber Pakhtunkhwa
(Respondent No.01)


Regional Police Officer
Malakand Region,
Saidu Sharif, Swat
(Respondent No.2)


District Police Officer Buner
(Respondent No.3)

ریکارڈ اڈاں کنٹینیل عرفان الحق نمبر 48

نمبر شمار	تفصیل سزا	آرڈر بک نمبر و تاریخ	سزا متعلق	آیام
1.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 33، مورخہ 16.03.2010	غیر حاضری	07 دن
2.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 40، مورخہ 29.03.2010	غیر حاضری	01 دن
3.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 10، مورخہ 21.01.2011	غیر حاضری	02 دن
4.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 16، مورخہ 01.02.2011	غیر حاضری	01 دن
5.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 09، مورخہ 22.01.2015	غیر حاضری	03 دن
6.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 11، مورخہ 19.01.2011	غیر حاضری	04 دن
7.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 13، مورخہ 21.01.2012	غیر حاضری	01 دن
8.	کوآرڈر گارڈ / ایکسٹرا ڈول	آرڈر بک نمبر 18، مورخہ 28.01.2012	غیر حاضری	تنخواہ بند
9.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 42، مورخہ 12.03.2012	غیر حاضری	04 دن
10.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 115، مورخہ 19.07.2012	غیر حاضری	02 دن
11.	کوآرڈر گارڈ	آرڈر بک نمبر 133، مورخہ 15.08.2012	غیر حاضری	02 دن
12.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 148، مورخہ 19.09.2012	غیر حاضری	02 دن
13.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 169، مورخہ 25.10.2012	غیر حاضری	04 دن
14.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 171، مورخہ 01.11.2012	غیر حاضری	01 دن
15.	کوآرڈر گارڈ	آرڈر بک نمبر 186، مورخہ 12.12.2013	غیر حاضری	02 دن
16.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 104، مورخہ 18.07.2013	غیر حاضری	02 دن
17.	بلا تنخواہ / جرمانہ (150)	آرڈر بک نمبر 107، مورخہ 24.07.2013	غیر حاضری	03 دن
18.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 112، مورخہ 06.08.2013	غیر حاضری	02 دن
19.	جرمانہ (150)	آرڈر بک نمبر 111، مورخہ 06.08.2013	غیر حاضری	
20.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 107، مورخہ 21.10.2014	غیر حاضری	01 دن
21.	بلا تنخواہ	آرڈر بک نمبر 126، مورخہ 10.12.2014	غیر حاضری	01 دن

Attested

 District Police Officer
 Name: _____

16

01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 40، مورخہ 24.04.2015	بلا تنخواہ	22
01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 70، مورخہ 31.08.2015	ایکسٹرا ڈزل	23
	غیر حاضری	آرڈر نمبر 96، مورخہ 20.11.2015	وارننگ آرڈر	24
01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 97، مورخہ 25.11.2015	ایکسٹرا ڈزل	25
01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 20، مورخہ 25.04.2016	بلا تنخواہ	26
	غیر حاضری	آرڈر نمبر 32، مورخہ 28.03.2016	وارننگ آرڈر	27
04 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 49، مورخہ 03.04.2018	بلا تنخواہ	28
01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 08، مورخہ 18.01.2016	ایکسٹرا ڈزل	29
01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 24، مورخہ 03.03.2016	بلا تنخواہ	30
03 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 61، مورخہ 24.06.2016	بلا تنخواہ / ایکسٹرا ڈزل	31
04 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 111، مورخہ 04.11.2016	بلا تنخواہ / ایکسٹرا ڈزل	32
01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 115، مورخہ 15.08.2018	بلا تنخواہ	33
02 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 178، مورخہ 03.12.2018	بلا تنخواہ	34
02 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 144، مورخہ 24.09.2019	بلا تنخواہ	35
01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 163، مورخہ 24.10.2019	بلا تنخواہ	36
01 دن	غیر حاضری	آرڈر نمبر 183، مورخہ 26.11.2019	بلا تنخواہ	37
		ڈی پی او آرڈر / ریہارکس کنسٹیبل اخلاقی طور پر کرپٹ ہے۔ اور مستقبل میں کسی مناسب / ذمہ دار پوسٹنگ کیلئے موزوں نہیں ہے۔	شوکار نوٹس	38

Attested
 District Police Officer
 Eamer

(7) Ameer - B

5-10-2021

تفاتیہ ایلم

تفاتیہ روزنامہ 23/10/21

درشمبر 12 رپورٹ محمد رفیق خان SHO وقت 15:00 مورف 23/10/21
 درج ذیلہ کنیشنل عرفان الحق 48 تقریباً ایک سینہ میلہ شمال
 آرڈنگ نمبر 137 مورف 24/10/21 کو کیمپولٹی دسیتال ڈگری سے ان کھیلڈٹ
 غلط حرکت اختیار اخلاقی سرگرمیوں میں علوت ہوئے کی الترام میں
 تھا نہ ہذا تبدیل ہوا تھا مذکورہ کنیشنل اپنی عادات سے باز نہیں آئے
 آفرین مذکورہ کا بمطابق ڈیوٹی پر چم 15:00 تا 14:00 تک
 مورف نمبر 3 پر ڈیوٹی کھائی گئی تھی مذکورہ نے تقریباً 1/2 میلہ
 پہلے اپنا ڈیوٹی پوائنٹ چھوڑ کر قریبی نالہ واقع جیسٹم حوالہ
 گان کی جھپٹا کپڑا ڈھونڈنے کے لیے آئی ہیں وہاں جا کر جھپٹوں
 کیساتھ ناز بیا حرکت کرنے ہوئے گھومتے معترضانوں کو لگاتار
 مذکورہ گانے غرتی کر کے اسکی شور شرابہ اور پروکورت کنیشنل ہوا
 میں چپکے ہوئے تھا نہ کی طرف آئے ہوئے دیکھائی دیا مذکورہ سے بریافت
 یہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا مسطورات کرنے پر معذرت ہوا
 کہ مذکورہ نے پوائنٹ ڈیوٹی چھوڑ کر قریبی نالہ میں واقع جیسٹم
 پر پھسایہ گان کے لٹری کیوں کے پاس غلط آراء سے جیسا تھا
 مذکورہ کا یہ فعل ناقابل معافی ہے سرپرست حوالہ دفعہ
 دفعہ کر کے مذکورہ کے اس فعل سے افسران بالا کو مطلع کیا گیا
 رپورٹ درج روزنامہ ہو کر تفاتیہ وغیرہ مناسب دیکھ کر
 بالا کے خدمت میں مدسل ہوگی

Attested
 District Police Officer
 Buner

جناب عالی

مقل بمطابق اہل سے

PS - ELUAM
 23-09-021

Sir
 Farwarded

SHO - PS - ELUAM
 05-10-021

مورف نمبر 137

18 Annex C


NO. 18 /Enquiry,


Dated 01/20/2021

CHARGE SHEET

1, Abdur Rashid Khan (PSP), District Police Officer, Buner as competent authority, under Khyber Pakhtunkhwa Police Disciplinary Rules-1975, hereby charge you Constable Irfan-ul-Haq No. 48 while posted to Police Station Elam of District Buner as follow:-

1. It has been reported against you vide DD No. 12 dated 23.09.2021 PS Elam, that you have lifted your duty point without permission.
2. That you are found involved in immoral activities vide DD noted above.
3. That you are of ill reputation in general public.
4. By reasons of the above, you appear to be guilty of misconduct and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in Rule-4 of the Disciplinary Police Rules, 1975.
5. You are; therefore, require to submit your written reply within 07 days of the receipt of this Charge Sheet to the Enquiry Officer under Rules-6 Sub Rules (i) (b) of Police Disciplinary Rules 1975.
6. Your written reply, if any, should reach the Enquiry Committee within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall follow against you.
7. Intimate as to whether you desire to be heard in person or not?
8. A statement of allegations is enclosed


Abdur Rashid Khan (PSP)
District Police Officer,
Buner

Attended

District Police Officer
Buner

DISCIPLINARY ACTION

I Abdur Rashid Khan District Police Officer, Buner as competent authority, under Khyber Pakhtunkhwa Police Disciplinary Rules-1975, is of the opinion he Constable Irfanul Haq No. No. 48 while posted to Police Station Elam, have rendered himself liable to be proceeded against departmentally and committed the following acts/omission as defined in Rule-2 (iii) of Police Disciplinary Rules 1975.

STATEMENT OF ALLEGATIONS

1. It has been reported against you vide DD No. 12 dated 23.09.2021 PS Elam, that you have lifted your duty point without permission.
2. That you are found involved in immoral activities vide DD noted above.
3. That you are of ill reputation in general public.
4. For the purpose of scrutinizing the conduct of said officer with reference to the above allegations Mr. Abdur Rashid Khan Marwan SP Investigation is appointed as Enquiry Officer under Rules 5 (4) of Police Disciplinary Rules 1975.
5. The Enquiry Officer shall conduct proceedings in accordance with provision of Police Disciplinary Rules 1975 and shall provide reasonable opportunity of defence and hearing to the accused officer, record its findings and make within ten (10) days of the receipt of this order, recommendation as to punishment or other appropriate action against the accused officer under Rules 6 (v) of Police Disciplinary Rules 1975.
6. The accused officer shall join the proceeding on the date, time and place fixed by the Enquiry Officer.

Abdur Rashid Khan
Abdur Rashid Khan (PSP)
District Police Officer,
Buner

OFFICE OF THE DISTRICT POLICE OFFICER, BUNER
No. 6024-85 /Enquiry, Dated Daggar the 01/10 /2021
Copy of above is sent to:

1. The Enquiry Officer for initiating proceeding against the accused officer namely under Police Disciplinary Rules, 1975.
2. Concerned defaulter through Lines Officer Police Lines Daggar.


Attested
M. D.
District Police Officer
Buner

کدیت جا۔ ریکورڈنگ آفیسر DPO نام و پتہ

جا۔ مات نوٹس نمبر 85-884

- 1- یہ منظرہ ریکورڈنگ آفیسر کے بارے میں
انجام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے بارے میں
کوئی کیس نہیں ہے۔
- 2- یہ منظرہ 23/2 سے 23/2 کے درمیان
10:00 AM تا 02:00 PM کے درمیان
سرانجام دیا گیا ہے۔ اس کے دوران
کے چکر میں جا کر اس کے بارے میں
دائیں ٹھکانے والی در SH40 کے بارے میں
دیکھ کر ڈائری بنا دی۔
- 3- یہ منظرہ 23/2 کے بارے میں
در SH40 کے بارے میں
اس کے بارے میں دیکھا گیا ہے۔
- 4- یہ منظرہ 23/2 کے بارے میں
تیار کر کے منظرہ کے ساتھ
میں اور دیکھا گیا ہے۔
- 5- یہ منظرہ 23/2 کے بارے میں
تیار کر کے منظرہ کے ساتھ
میں اور دیکھا گیا ہے۔

(P.T.O)


 District Police Officer
 Bahawalpur

6۔ کہ حضرت ایک فرزند نام لیا اور حضرت دار شکر ہے
اور نہ تہہ کسی رسول سے جاگنازی لنگار ملک صورت
کئی ہے۔ اور آئینہ کئی ہے شکر ہے۔

7۔ یہ سب اقران کی قسم غیر قانونی و غیر از دینی نام
میں کہتے ہیں۔ حال تک 5440 ہے۔ یہ اجازت لینے
کا سوال ہے۔ تو میں یہ دعوتوں و دعائی کا ندی سے اور
آئینہ کئی حقاہت میں ہے۔ کا بیٹھ غزم کرانے سے

8۔ کہ حضرت شادی آئینہ ہے۔ اور میں بچوں کا پاس ہے۔
اور یہ خاندان کا رکتوں کفیل ہے۔ میں یہ سبیل
اور جھوٹا اور احادیث سے مذہبی کے حوالہ داتا ہے

اور آئینہ ہے۔ یہ سبیل اقران انصواری مبارک لکھ
میں تیری ذمہ داری ہے۔ میں دعا گو ہے کہ

محمد

کیٹیل عرفان الحق بیٹنمبر 48

7-10-2021

Atkhatp
District Police Officer
Buner

مضمون:- محکمہ انکوائری بر خلاف کنسٹیبل عرفان الحق نمبر 48 متعینہ تھانہ اہلم حال پولیس اسٹیشن

بجانب مانی

بجوالہ چارج شیٹ نمبری Enq: 18/ مورخہ 01.10.2021 بجاریہ جناب DPO صاحب معروضی خدمت میں اور چارج شیٹ میں کنسٹیبل عرفان الحق نمبر 48 کے خلاف ذیل الزامات لگائے گئے ہیں۔

تھانہ اہلم میں دوران تعیناتی بغیر اطلاع ڈیوٹی پوائنٹ چھوڑ کر جانے پر مذکورہ کے خلاف رپورٹ بحوالہ عدالت اور 23/09/2021 درج روزنامہ کی گئی ہے۔

روزنامہ رپورٹ کے مطابق مذکورہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔

جس کی وجہ سے عام لوگوں میں خراب شہرت رکھتا ہے۔

چارج شیٹ درج الزامات بالا کے نسبت انکوائری کے لئے من SP انوائسٹی گیشن کو موصول ہو کر انکوائری شروع کی گئی۔ دوران انکوائری الزام علیہ کنسٹیبل عرفان الحق، عبدالجلیل محرر تھانہ اہلم، کنسٹیبل شیر ولی نمبر 839، حاضر خان ASI، اور H.C. میاں حسین شاہ ASI اور منیر الرحیم ASI طلب کرنے کے بیانات تلامبندے گئے۔

الزام علیہ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ تھانہ اہلم میں ڈیوٹی پوائنٹ مورچہ نمبر 3 پر ڈیوٹی ختم کر کے سوار خریدنے کے لئے قریبی گاؤں اہلم جا کر ایک دکاندار سے سوار خرید کر واپس تھانہ آ رہا تھا۔ نزدیکی چشمہ میں پانی پینے کی خاطر رکا۔ کہ تھانہ واپسی پر محرر بغیر اجازت چلنے کی وجہ دریافت کی اور میرے خلاف SHO تھانہ اہلم نے رپورٹ درج روزنامہ کی۔

محرر تھانہ عبدالجلیل HC نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ مذکورہ کنسٹیبل عرفان الحق کی 10/23 ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ نزدیکی مورچہ میں متعین کنسٹیبل شیر ولی نے اطلاع دی تھی۔ کہ مورچہ نمبر 3 میں مذکورہ کنسٹیبل موجود نہیں اور کپڑے تبدیل کرنے کے قریبی چشمہ کی طرف گیا ہے۔ اس اطلاع پر کنسٹیبل شیر ولی کو اس کے عقب معلومات کے لئے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد کنسٹیبل شیر ولی نے فون پر بتایا کہ چشمہ میں پچاس کپڑے دھو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک معمر خاتون ہے جو کہ کنسٹیبل عرفان الحق کو کہہ رہی تھی کہ جاؤ ورنہ پتھر ماریں گے۔ واپسی پر کنسٹیبل مذکورہ سے وجہ پوچھی تو تسلی بخش جواب نہ دیا۔

کنسٹیبل شیر ولی نمبر 839 متعینہ تھانہ اہلم نے اپنے بیان میں محرر تھانہ عبدالجلیل کے بیان کی تائید کرتے ہوئے واضح کیا کہ واپسی اس نے عرفان الحق کی معلومات کی خاطر قریبی چشمہ جا کر وہ نظر نہیں آ رہا تھا البتہ کچھ دیر بعد گئے پوچھا کہ ان کے ہاتھوں میں تھکنے چھیکے آتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اسی طرح ایک معمر خاتون بھی چشمہ کی جانب آ کر کنسٹیبل عرفان الحق کو نہایت تند و تیز لہجہ میں کہہ رہی تھی کہ یہاں سے جاؤ اگر آئندہ یہ حرکت کی تو آپ کو سنگسار کریں گے۔

حاضر خان ASI نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ٹریفک سٹاف میں سال 2007/2008 کو تعینات تھا جبکہ عرفان الحق اس وقت محکمہ پولیس میں بھرتی نہ تھا اور بحیثیت ٹیکسی ڈرائیور مزدوری کر رہا تھا۔ اکثر اوقات مذکورہ کے غلط چال چلن کے نسبت شکایت لگتی رہتی تھی۔ جس پر مذکورہ کو برے عادات سے بچنے کی تاکید کرتا رہا۔

Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

5. سیال حسین شاہ ASI نے اپنے بیان میں مذکورہ کنسٹیبل کا ان کے ساتھ کج چوٹی ہسپتال میں تعیناتی کے دوران اس قسم کی

موصول ہونے کی تردید کی۔ لیکن مذکورہ کے بد چلنی کے نسبت اظہار کیا۔

اس کے علاوہ دفتری ریکارڈ ملاحظہ کر کے پایا گیا کہ مذکورہ کنسٹیبل سال 2010ء کو محکمہ پولیس میں بھرتی ہوا۔

سرہس کے دوران مختلف اوقات میں ڈیوٹی سے غیر حاضر رہ کر اس کے سرورس بک میں 38 "Bad Entries" ہو چکے ہیں جبکہ "Good Entry" کوئی بھی درج نہیں ہے۔ اور محکمہ میں ترقی کے لئے ابتدائی امتحان AI بھی ٹیل کیا ہے۔

انکو ایڑی ہو کر بیانات، حالات سے پایا گیا کہ الزام علیہ کنسٹیبل عادی بد چلن اور عورتوں کے ساتھ ہتھیار چھانڈنے

جیسے واقعات کے لئے پہلے سے مشہور ہے۔ اور محکمہ پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد بھی اپنے بد چلن سے باز نہیں آیا۔ قبل ازیں دوران تعیناتی کج چوٹی ہسپتال میں بھی اس قسم کی شکایات کی زد میں آکر ان سپلیٹ تھانہ ایف بی ایف میں داخلہ ہوا۔ تھانہ ایف بی ایف نے ملاتہ تھانہ ایف بی ایف میں بھی اپنی بڑی عادت کا سلسلہ جاری رکھ کر دیہہ ایف بی ایف میں بسنے والے سادہ لوح عورتوں کو شکار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چشمہ میں موجود عورتوں کی چیخ و پکار اور شور شرابہ پر بھاگ کر اپنے مذموم سز میں کامیاب نہ ہوا۔ سارے واقعے کا چشم دید کنسٹیبل شیرولی نے محرر تھانہ کو برقت اطلاع دیکر SHO تھانہ ایف بی ایف محمد رفیق خان نے رپورٹ درج روزنامہ کر کے انسپران بالا کو برائے مناسب کارروائی ارسال کی۔

چونکہ علاقہ تھانہ ایف بی ایف ایک شورش زدہ اور سیکورٹی کے لحاظ سے ایک حساس مقام ہے۔ وہاں پر تعینات اہلکاران کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اچھے رویوں سے عوام میں اعتماد بحال رکھے۔ نہ کہ غلط اور بڑے عادات اور رویوں سے عوام میں محکمہ پولیس کے بہادر جوانوں کے بدولت پایا ہوا مقام کھویں۔ الزام علیہ کنسٹیبل کے سابقہ اور موجودہ چال چلن کے نسبت ریکارڈ کا ملاحظہ کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مذکورہ آنے والے وقت میں بھی محکمہ پولیس کے ماتھے پر بد چلن اور بد چلن ثابت ہوگا۔

لہذا ای گئی انکو ایڑی سے اخذ کردہ نتیجے کے تناظر میں کنسٹیبل عرفان الحق نمبر 48 تھانہ ایف بی ایف میں تعیناتی کے دوران عورتوں کے ساتھ غیر اخلاقی فعل کرنے کا مرتکب ہو کر قصور وار ہے۔ اس لئے مذکورہ کے خلاف متعلقہ قانونی دفعات کے تحت باقاعدہ مقدمہ درج رجسٹر کرنے بصورت دیگر Major Punishment کی سفارش کرتا ہوں۔ رپورٹ عرض ہے۔

Attest
District Police Officer
Buner

ایس پی انوسٹی

Dismissed
from service
as he is habitual
chronic and his
behaviour is

ماہیئل انٹرایسٹرز آف کراچی کیسٹل عرفان الحق نمبر 48 کا ایلمنٹل لیسٹ

نمبر	تفصیل کا عہدہ	نمبر قطعہ
1	جائیداد ریفرٹ، ایئر کنڈیشننگ	04
2	طارج سٹیٹ ٹری / 85-84-6084	02
3	ڈیوٹی چارج، قلعہ 12، پلاٹ نمبر 239	02
4	کونٹریکٹ انٹرایسٹرز ریٹائرڈ	03
5	تفصیل طارج سٹیٹ ٹری	03
6	کیسٹل عرفان الحق نمبر 48	01
7	بھارتی طارج سٹیٹ ٹری، عزیز الرحیم	04
8	بھارتی طارج سٹیٹ ٹری، حیدرآباد	04
9	بھارتی طارج سٹیٹ ٹری، کیسٹل پیر پلاٹ نمبر 339	02
	ٹریٹل	اجمہ قطعہ

Attested
District Police Officer
Butler

مہر ادران مہر الجلیل نمبر 692 فرم 3 قضا ایلم

میں کیا کہ سہیل نے بطریق دروغی طرح برائے 23/11/2011 کے لئے کی گئی
 ڈیوٹی فری لیکچر شروع ہر 3 پریکٹس مرفاں الحق نمبر 48 کی طرح ڈیوٹی
 رکھی تھی۔ درج 23/11/2011 کوقت 14.00 تا 15.00 بجے ڈیوٹی سے لئے مرفاں الحق
 جا کر موجود تھا۔ یہاں وقتاً فوقتاً تمام سندھیاں چیک کرتا رہا۔ وقت 40-43
 کیل سیر کی 839 مسکی مرفاں الحق سے بعد 14.00 تا 18.00 بجے ڈیوٹی شروع
 ہر 3 پریکٹس تھی۔ نے اگرتھے تھا کہ یہاں شروع ہر 3 جا کر کیل مرفاں الحق
 ڈیوٹی نوٹس پر موجود نہیں اور دردی تبدیل اسے فری جیمہ سفید
 باضات میں لکھا ہے۔ اسکے عقب کیل سیر کی بھیجا۔ لہذا اسے یہاں
 کی کہ جا کر نہ رہے کہ مرفاں الحق بغیر حصول اجازت یہاں نہ رہے۔
 ٹھوڑی دیر بعد سیر کیل سے نکلے مرفاں حق پر حال اسے بتایا کہ
 مانی و لکے جیمہ پر جہاں کھڑے دھونے کے لئے موجود تھی۔ لہذا وہ ایک
 مقرر جانوں ہی تھی۔ وہ جانوں کپہ رہی تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ وہ
 ایک پتھر مارینگے۔ اسے کارروائی کیل میں واپس ہانے ائے۔ میرے اسکا
 یہی کیل مرفاں الحق سے فری جیمہ بغیر اجازت جانے کی طرح ٹھوڑی
 اور وہ تکی ٹنسی جواب نہ دے سکا۔ 17 بجے مرفاں ایلم مرفاں حق میں
 تھا یہاں موجود تھا۔ جملہ واقعات اسکے نوٹس میں لائے۔ لہذا اس سے
 کیل مرفاں الحق کے خلاف بحال ہر 12 روزہ 23/11/2011 رپورٹ شروع ہر 3
 کی ہے۔ یہی مرفاں حق ہے۔

Attested
 District Police Officer
 Buner

ATTESTED
 S.P. Buner
 10-10-21

مہر الجلیل نمبر 692 فرم 3 قضا ایلم

* مکان ایلم میں تقریباً ایک ماہ سے قسبات ہے
 * تمام ایلم میں قسبات ہیں


مہر الجلیل نمبر 692 فرم 3 قضا ایلم


حجہ ۱۴۳۱ھ ۲۱/۱۲/۲۰۱۰ء بیاض کینٹل شیریڈی نمبر 839 قحطیلم

بیاضی میں کہ حجہ ۲۲/۹ کو بطلانِ بڑھتی حجہ حجہ نمبر 3 درجہ درجہ
 سرگرم کئی ہوئی تھی۔ بوقت دن (50-13 بج) حجہ نمبر 3 جاکر اسات سے پہلے
 کینٹل عرفان الحق نمبر 48 کی ڈھوٹی روٹھ لٹائی گئی تھی۔ تاہم اسات سے خارجوں
 لیکن وہ ڈھوٹی بونائیت موجود نہ تھا۔ سیاہ خزان طور پر حجر مسد الجلیل ما
 کے نوٹس میں لاکر اسات سے تھانے سے فاصلہ پر واقع چشمہ اسان غرض بیجا
 کہ امریکی معلومات ہو سکتی۔ جو یہی سیاہ لے لوراجات میں چشمہ کے نزدیک گیا
 لورہاں قریبی مکان سے ایک عورت گھسنے میں اور کافی تندرست لہجہ میں
 یہ کہہ رہی تھی۔ کہ اپنی ایندھا ایسا حرکت کرے۔ تو ہم سرگماہا کر رہے۔ یہ
 جملہ حالات برسرِ فون وہاں سے فرمایا۔ مسد الجلیل کے نوٹس میں لاکر
 اسات پر پڑتی تھی۔ ہم کینٹل عرفان الحق ڈھونڈ کر لاؤ۔ اسات بھرتیل
 عرفان الحق قریبی جھانڈیوں لہر کھنڈ لوراجات میں جھکے تھیلے میں لاکر
 میراے خالوں جو کافی غصہ تھی۔ کے باجے اسات سے دریافت کیا۔ تو اسات نے کہا
 کہ میں چشمہ سیاہ راستے میں بیجا تھا۔ جلا پر خالوں غصہ ہو کر مجھے براہ راست
 رہی ہے۔ وہاں سے میں درجہ نمبر 3 برائے ڈھوٹی جیکہ کینٹل عرفان الحق تھا
 آیا۔ یہی میرا بیان ہے۔

کینٹل شیریڈی نمبر 839 قحطیلم
 ڈھیل 0397-2000260

ATTESTED

Attested



 Sp. of - Bumer
 14-10-21

17
 23/09/2021
 22/09/2021

کامپوزیشن PA-51 بمبئی لویس

2111	حوسن خان	2562	نیکسا رستہ	836	سلیم اللہ خان	میرزا محمد
2476	فضل نائک	2681	محمد علی	1093	محمد عیاد	میرزا محمد
839	محمد علی	4824	عمر خان لاج	2809	افدیا بیگم	میرزا محمد

DD اصل
 C عبدالملک
 1816

محمد علی
 محمد عیاد
 محمد عیاد


فونڈ لویس

- 1) محمد عیاد
- 2) اشفاق 632
- 3) محمد خان 2608
- 4) محمد عیاد
- 5) محمد علی
- 6) محمد علی
- 7) محمد علی
- 8) محمد علی
- 9) محمد علی
- 10) محمد علی

- 1) محمد عیاد 1816
- 2) محمد خان 2717
- 3) محمد عیاد
- 4) محمد علی 1093
- 5) محمد عیاد
- 6) فضل نائک 2476

22/9/2021

22/9/2021
 A-PS-Elad
 22-09-2021

Attester



- 1) محمد عیاد
- 2) محمد علی 458
- 3) محمد علی 517
- 4) محمد علی 809
- 5) محمد علی 1036
- 6) محمد علی 1829
- 7) محمد علی 2786
- 8) محمد علی 517
- 9) محمد علی 836
- 10) محمد علی 1524


مرکز ۱۵ گاہکوں کیلئے نروان الحق نمبر 48 حال کوہ پور لاہور

بنا گیا کہ میں آج سے 25/05 کا نوم قبل سے لڑیں ہیں ایلم میں
 کیت کیل ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ مرچ 23⁹/₂₁ کو بطابق ڈیوٹی چھوڑ
 کر مرچ 31 پر میری 10 تا 20:00 ڈیوٹی تھی ڈیوٹی ختم ہونے پر ہی ڈیوٹی ایلم
 جا کر وہاں پر ایک ڈکانڈر سے لگاؤ بند کروا دیا تھا۔ ایلم اتنا ہوا جتنا چاہ
 توہ تھا۔ اس سے 10/15 منٹ کے فاصلے پر طرف غرب واقع ہے۔ یہاں پانی پینے کے واسطے
 رکاوٹیں۔ پانی کی تر واپس تھا نہ آیا۔ ضرورتاً لیل کے وقت سے یہ ایلم
 جانے کی بات اور دریافت کی۔ جسکو میں نے کہا کہ یہاں صرف لگاؤ بند
 رکھا گیا ہے۔ ایلم گیا ہوا تھا۔ مجھے کافی باتیں سنائی۔ لڑنے ہوا کہ کون بہتر اجازت
 دے گا۔ اور ضروری طور پر ضرورتاً طر 20:00 کا تھا۔ ایلم کے کوٹس سے ڈکانڈر
 کے لئے لائٹ 20:00 گاہکوں سے میرے خلاف لڑوٹ ڈرامہ ہوا۔ کیسے جوہم تعریف
 کر رہی ہیں۔ اس الزام / ڈرامہ سترہ لڑوٹ کے بدلے میں لڑوٹ کو لایا
 دیا گیا تھا

کیل نروان الحق نمبر 48 حال کوہ پور لاہور

ATTESTED

Attested


SPU

 14/10-2021

سپاں کا ممبران آئی اے اے اے اور ڈی اے ڈی اے

سپاں ہوں کہ میں بحیثیت اعلیٰ درجہ سپرنٹنڈنٹ واپس آؤں گا ضروری سال 2019 سے سال
 2021 تک تصانیف تھا۔ میری تصانیف کی مدت دوران میں سپرمان ایف اے 48 لکھی گئی
 وہاں کیسے سپرنٹنڈنٹ سٹاف تبدیل ہو کر آتا تھا۔ دو ماہ کا عرصہ سپرنٹنڈنٹ سٹاف ہونے میں گزارا
 کیل فوری طور پر DPD کے لیے نوکری میں تبدیل کیا۔ اسی پیریڈ میں کسی
 ایک طرف کوئی شکایت نہیں کی گئی تھی۔ اسی پیریڈ میں کوئی شکایت
 میرے سپرنٹنڈنٹ سٹاف میں سال 2007 سے تصانیف تھا اور سپرمان ایف اے
 بحیثیت سپرنٹنڈنٹ سٹاف میں آتا تھا۔ اس کے خلاف مار مارا گیا ہے
 اس کے خلاف اصل ٹھکانے میں۔ اور وہ خود میں کو چھوڑنے کا کام کر رہا
 میری تصانیف کی مدت دوران میں اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی گئی
 تاکہ سزا دیا جائے

سپاں

سپاں آئی اے اے اے اور ڈی اے ڈی اے


ATTESTED


Attested


SPD Ameer
14-10-21

بیان اذان میں سنا ہوا طالع آج سے ناوہی

بیانی میں کہ یہ سال 2020 میں بحیثیت اخیار کیمپولی ہسپتال ڈسٹریکٹ ہسپتال تھا۔ سہ ماہی کے ساتھ موجود کھیلوں میں سے کینڈا عرفان الحق ز 48 بھی تقنات ریاست وہ نذر کی بناوں کے پہلے کا رہا ہے۔ اور اسکی بیوی بھی ہسپتال ڈسٹریکٹ میں سنا رہی ہے۔ اس لیے وہ خواہشیں کینڈا کے نام سے یہاں سے ایسے میں کافی مشغول تھا۔ اللہ عام فعا ہے۔ میں یہ بات منظر ہے۔ کہ کینڈا نذر وہ یہ ہیں ہے۔ اور اسکا حکم نامہ حد سے نذر ہے۔ جہاں خواہشیں نذر ہیں۔ جب تک میں بحیثیت اخیار کیمپولی تقنات تھا اس وقت میں نذر اور محکمہ کو اس کا بندھاؤ سے جانے کیا طرز اسکی نگرانی کرتا تھا۔ یہ فصل تھا ایسا کہ نئی نافرمانی اور واقعہ ہوا ہے۔ یہ نذر کی شکایت ملی ہے۔ بس یہی بیان ہے۔


 آج سے ناوہی طالع آج سے ناوہی

Attested

 District Police Officer
 Buner

ATTESTED

 SP. Buner
 17-10-21

(21)

Name Irfan Ul Haq FC/48
 Date of Birth 28.12.1984
 Date of Enlistment 01.01.2010
 Education 10th
 Village Gulbandi
 Home PS Gulbandi
 A1 Exam Fail
 Courses Traffic Course
 Entries Good = NIL, Bad = 38.
 Present Posting Police Line Daggar

S#	Place of Posting	Date of Posting
1.	Transfer from Highway Traffic Peshawar to District Buner	22.12.2017
2.	PS Pir Baba	04.01.2018
3.	Traffic Staff	08.02.2018
4.	Police Line Daggar	27.03.2018
5.	PS Jowar	23.05.2018
6.	CP Karakar	10.10.2019
7.	Traffic Warden	17.10.2019
8.	Police Line Daggar	16.12.2019
9.	CP Sarmalang	17.12.2019
10.	Casualty Daggar	12.03.2020
11.	PS Elum	24.06.2021
12.	Police Line Daggar	27.09.2021 Up-to-date

قریب
 محمد اکبر بابر
 محمد علی
 مشرف خان + خواجہ فرید
 حافظان بیگم
 عزیز طاہر
 میاں شمس شاہ

[Handwritten Signature]

06.10.2021

Attested
[Signature]
 District Officer Buner

[Signature]
 ESTABLISHMENT CLERK
 DPO OFFICE BUNER
 06-10-21

23

کریکٹ کے لیے طلبہ کو
کریکٹ کے لیے طلبہ کو

SP - U. Buner
08-10-21

امروز کی کھیل شروعات 839 بجے
امروز کی کھیل شروعات 839 بجے

12-10-21

انٹرنیٹ پر احتیاج ہے
انٹرنیٹ پر احتیاج ہے

14-10-21

SP - U. Buner
14-10-21

Attested
District Police Officer
Buner

(24)

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
BUNER

ORDER

This order will dispose-off the departmental enquiry initiated against Constable Irfan-ul-Haq No. 48 While posted to PS Elam (Now PTC Hangu) issued vide this office Enquiry No. 18, dated 01.10.2021.

Briefs facts are that:-

Constable Irfan-ul-Haq No. 48, while posted Police Station Elam, found involved in frequent immoral activities, lastly occurred in the jurisdiction of PS Elam, where the accused Constable was on duty and he left his point of duty and went to the nearby Water Springs / Fountains to have harassed & outrage the modesty of women pitching waters to their homes vide DD No. 12/23.09.2021 PS Elam. Consequently, he was proceeded against departmentally. Mr. Abdur Rashid Khan SP Investigation, Buner was appointed as Enquiry Officer. The Enquiry Officer conducted thorough enquiry and recorded his findings that the accused constable is habitual delinquent having 38 bad entries in his entire 11 years of service with zero good entries. The accused official is morally corrupt and recently been transferred from DHQ Hospital Daggar to PS Elam in the same context, where the above narrated allegations were leveled against and the same were thoroughly inquired, which proved against him. The E.O recommended him for awarding major punishment and also for adopting criminal proceedings as his acts are intolerable and embarrassment for the department.

Now, therefore, I Abdur Rashid Khan (PSP) District Police Officer Buner as Competent Authority and in exercise of the power vested under Police Rules-1975, is believed that the official accused is habitual, chronic and morally corrupt, agreed with the recommendation of Enquiry Officer of awarding major punishment. Constable Irfan-ul-Haq No. 48 is hereby **dismissal from service** with immediate effect.

Order announced:


DISTRICT POLICE OFFICER,
BUNER

OB No. 168.
Dated: 20/10/2021

Attested




85

**OFFICE OF THE
REGIONAL POLICE OFFICER, MALAKAND
AT SAIDU SHARIF SWAT.**

Ph: 0946-9240388 & Fax No. 0946-9240390

Email: ebmalakandregion@gmail.com

Handwritten notes and initials in the top right corner.

ORDER

This order will dispose of appeal of Ex-Constable Irfan-ul-Haq No.48 of Buner District for re-instatement in service, who was dismissed from service by the District Police Officer, Buner vide OB No:168, dated 20/10/2021.

Brief facts of the case are that Ex-Constable Irfan-ul-Haq No.48 was appointed on 01/01/2010 and performed his duties on various places. He was awarded 38 times minor punishments with adverse remarks from the DPO Buner. During his second last posting in DHQ Hospital for indulging in immoral activity there in the DHQ Hospital with ladies patients and subsequently he was transferred to Police Station Elam on 24/08/2021.

On 23/09/2021 vide DD No. 12 PS Elam, within a short span of period, he was again found in iniquitous activity there in the jurisdiction of PS Elam to the effect that he left his point of duty and went to the nearby Water Springs/ Fountains to have harassed & outrage the modesty of women pitching waters to their homes. He was suspended and closed to Police Lines Dagger and consequently, he was proceeded against departmentally and Mr. Abdul Rashid Khan SP Investigation Buner was appointed as Enquiry Officer.

The Enquiry Officer conducted departmental enquiry and recorded his statement. The Enquiry Officer in his finding stated that the accused Constable is habitual delinquent having 38 bad entries in his entire 11 years of service with zero good entries. The accused official is ill reputation, morally corrupt all the allegations leveled were proved against him and he was recommended for major punishment with criminal proceedings against him as his acts are intolerable and embarrassment for the department. On the recommendation of Enquiry Officer, the District Police Officer, Buner awarded him major punishment of dismissal from service vide OB No.168, dated 20-10-2021.

He was called in Orderly Room on 22-12-2021 and heard him in person, but he did not produced any cogent reason to defend the charges leveled against him. Therefore, his appeal is hereby rejected.

R. Ashraf
Regional Police Officer,
Malakand Region Swat

No. 15189 /E,
Dated 28-12-2021

Copy for information and necessary action to the District Police Officer, Buner with reference to his office Memo: No.6687/EC, dated 15-11-2021. His Service Roll & Fuji Missal containing enquiry file received with the Memo: under reference are returned herewith for record in your office.

Enebi S. Rell
F. Missal

K. Khatun
District Police Officer
Buner

EC
For record
District Police Officer
Buner

